

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اشارات

## کیا عدالتی فیصلہ ایک انقلاب کا نقیب بنے گا؟

خرم مراد

۲۰ مارچ کو صبح ساڑھے دس بجے کراچی میں 'سپریم کورٹ کے ۵ رکنی فلینچ نے ججوں کے تقرر کے بارے میں جو فیصلہ سنایا، وہ یقیناً عدلیہ کی آزادی کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر اس فیصلے پر کماحقہ عمل ہوا۔ جو حکومت کی طرف سے عدلیہ کے خلاف جنگ چھیڑ دینے کی وجہ سے مشکوک لگ رہا ہے۔۔۔۔۔ تو کسی حکمران کے لیے مطلق العنان بننا انتہائی دشوار ہو جائے گا۔ یہ ممکن نہ ہو گا کہ وہ ججوں کو اپنی مرضی کا تابع بنانے کے لیے غیر آئینی اقدامات کرے جو موجودہ حکومت دھڑلے سے کر رہی تھی۔ عدالت نے حکومت کو پابند کر دیا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کے مشورے سے جج مقرر کرے، اپنے من مانے تقرر نہ کرے۔ قائم مقامی اور عارضیت کی تلوار ججوں کے سر سے اٹھائے، اور تین ہائی کورٹوں میں دو سال سے جو قائم مقام چیف جسٹس مقرر کیے ہوئے ہیں ان کی جگہ مستقل چیف جسٹس مقرر کرے۔ ججوں کو شریعت کورٹ میں بھیج کر ان سے چھٹکارا حاصل کرنے اور ان کے منصب اور مقام کو غیر محفوظ اور فرد تر کرنے کو بھی اس نے خلاف آئین قرار دے دیا ہے۔

لیکن اس فیصلے کے مضمرات صرف ججوں کے تقرر اور عدلیہ کی آزادی تک محدود نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ وسیع اور دور رس ہیں، اتنے وسیع اور دور رس کہ وہ پوری قومی زندگی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ فیصلہ پوری قوم کے لیے ایک سنگ میل ہے، یا کم سے کم بن سکتا ہے۔ جن مسلمہ مقدمات اور آئینی دفعات کی صاف اور واضح تشریحات پر یہ فیصلہ قائم ہے، اور جو اس کے منطقی اور قانونی نتائج ہیں، اگر پاکستان کی عدالتیں پوری جرات اور استقلال کے ساتھ ان کی پاسبانی کرتی رہیں، اور ان کو ایک تسلسل کے ساتھ وسعت دیتی اور آگے بڑھاتی رہیں، تو وہ یقیناً اس یاس زدہ ملک کے اندھیروں میں امید کی شمع جلانے کا باعث بنیں گی، اور کیا عجب کہ وہ ایک ایسے آئینی انقلاب کی نقیب بھی بن جائیں جس کے نتیجے میں ملک کو قیام عدل کی نعمت عظمیٰ نصیب ہو جائے۔

-----

اس فیصلے کو ایک تاریخی فیصلہ قرار دیا جا رہا ہے اور بجا طور پر دیا جا رہا ہے۔ لیکن جہاں تک ججوں کے تقرر اور ان کے مناصب کو حکومت کی من مانی کارروائیوں کے چنگل سے آزاد کرنے کا تعلق ہے، تو یہ تو کوئی غیر معمولی چیز نہیں۔ یہ تو اتنا معروف و مسلم اصول ہے کہ ہر ملک جسے منہب ہونے کا دعویٰ ہے وہاں اس کا اہتمام موجود ہے۔ پھر صرف اتنا کرنا یہ بات یقینی بنانے کے لیے کافی بھی نہیں ہو گا کہ جج حضرات، قانون کی حکومت قائم کرنے کے لیے اپنا آئینی کردار ادا کرنا شروع کر دیں۔ اس لیے کہ جب ان کا تقرر اور منصب، انتظامیہ کی دست برد سے محفوظ تھے تب بھی وہ اپنا یہ کردار پوری طرح ادا نہیں کرتے رہے ہیں۔ اسی طرح یہ فیصلہ کوئی منفرد نوعیت بھی نہیں رکھتا۔ آج سے ۵ سال قبل ۱۹۹۱ میں، بھارت کی سپریم کورٹ بھی ایسا ہی فیصلہ دے چکی ہے، جہاں کے دستور کی دفعات ہمارے دستور سے مماثل ہیں۔ اس فیصلے میں کسی ایسی عدالتی فعالیت (Judicial activism) کا مظاہرہ بھی نہیں کیا گیا، جس طرح کی فعالیت کے ذریعے امریکہ اور انگلستان جیسے ممالک میں عدالتیں، دستوری اور سماجی نظام میں انقلابی تبدیلیاں لایاں گئی ہیں۔ یہ تو دستور کی دفعات کی بڑی محتاط اور سیدھی سادی تشریحات پر مبنی ہے۔ حکومت کی مزاحمت کی وجہ کچھ اور ہی ہے۔

پھر اس فیصلے کی وہ کیا حقیقت اور نوعیت ہے، جو اسے تاریخی بناتی ہے؟ ہمارے خیال میں، سپریم کورٹ نے اس فیصلے کے ذریعے، دراصل ملک کے اعلیٰ اور طاقت ور حکمرانوں کی مطلق العنانیوں، قانون شکنیوں اور نظام و عوام کے خلاف چیرہ دستیوں کو لگام دی ہے۔ ایسے حکمرانوں کو نہیں جو اقتدار سے ہٹ چکے ہوں، بلکہ ایسے حکمران جو فیصلے کے وقت مسند اقتدار پر دندنارہے ہیں، طاقت کے نشے میں چور ہیں اور منتخب بھی ہیں، گویا ”جمہوری قبائیں دیو استبداد“ بنے ہوئے ہیں (بلکہ دیوی کما جائے تو زیادہ مناسب حال ہو گا)۔ ایسے طاقت ور لوگوں کی قانون شکنی کو عدلیہ نے جائز قرار دینے یا اس پر لپٹا پوتی کرنے کے بجائے دو ٹوک الفاظ میں قانون شکنی ہی قرار دیا ہے اور انہیں اس سے رک جانے ہی کا نہیں، اس کا مدعا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔

یہ بات بہت اہم ضرور ہے کہ یہ قانون شکنی، جو اونچے لوگ تو ہر دائرے میں برابر کرتے چلے آ رہے ہیں، اس دائرے میں روکی گئی ہے جو عدلیہ ہی کو تباہ کیے دے رہی تھی۔ اس عدلیہ کو جو آئینی طور پر قانون شکنی روکنے کی ذمہ دار ہے۔ لیکن اصل اہمیت اسی بات کی ہے کہ عدالت نے طاقت ور حکمرانوں کو بتایا ہے کہ وہ انہیں حکمرانی کرتے ہوئے قانون و انصاف کی حدود سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔

عدالتوں کی جانب سے حکمرانوں پر قانون کی حکومت قائم کرنے کا کام بھی، متعدد ممالک میں معمول کے مطابق ہوتا رہتا ہے۔ اور ہمارے ہاں تو دستور کی دفعات ۱۸۲ اور ۱۹۹ واضح طور پر یہ کردار اعلیٰ عدالتوں کے سپرد کرتی ہیں لیکن جس بات نے عدالت کے اس فیصلے کی اہمیت کو آئی گنا بڑھا

دیا ہے، اور فی الواقع اس کو تاریخی بنا دیا ہے، وہ یہ ہے کہ نصف صدی میں یہ تیسرا ہی فیصلہ ہے، [۱۹۵۴ میں مولوی تمیز الدین خاں کیس میں سندھ ہائی کورٹ کے، اور ۱۹۹۳ میں نواز شریف کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد] جس میں عدالت نے قائم و با اختیار، اعلیٰ ترین حکمرانوں کی دستور و نظام کے خلاف قانون شکنی کو قانون شکنی قرار دیا ہے، اور اس کا مدعا بھی کیا ہے۔

یہ صحیح ہے کہ ہماری عدالتی تاریخ میں اعلیٰ حکمرانوں کو قانون کی حدود میں رکھنے کی بھی بے شمار روشن مثالیں موجود ہیں، ہمارے متعدد جج بھی تابناک کردار کے حامل رہے ہیں، لیکن یہ قانون کی حکومت یا تو جزوی دائروں میں افراد اور اداروں کے حق میں قائم کی گئی، یا غیر حاضر و بے اختیار حکمرانوں کے خلاف۔ لیکن، ہم پورے ادب کے ساتھ کہنا چاہیں گے کہ، جہاں دستور و نظام کا مسئلہ ہوا، یا ریاستی اداروں کا، یا حکمران قائم و با اختیار ہوئے، وہاں عدالتیں نہ صرف اپنا آئینی کردار ادا کرنے سے قاصر رہی ہیں، بلکہ انھوں نے حکمرانوں کی دستور شکنی تک کو سند جو از عطا کی ہے۔ ۱۹۵۳ میں گورنر جنرل غلام محمد کی طرف سے ملک کی بانی دستور ساز اسمبلی کی برخواستگی کے کیس میں جسٹس منیر کورٹ کی طرف سے سند جو از عطا کرنے سے لے کر، ۱۹۹۴ میں صابر شاہ کیس میں حالیہ سپریم کورٹ کی طرف سے حکومت کے غیر آئینی فیصلوں کی بالواسطہ تصویب تک --- یہ ایک طویل اور تکلیف دہ داستان ہے۔ حکمرانوں نے بار بار منتخب و مقتدر پارلیمنٹ کو کان پکڑ کے نکال باہر کیا، جو دستور ان کے وجود کا سرچشمہ تھا اور جس کے ساتھ وفاداری کا حلف وہ اٹھائے ہوئے تھے، اسی کو منسوخ کیا، معطل کیا، اس کی من مانی مرمت کی، بنیادی حقوق غصب کیے، خود عدالتوں ہی پر شب خون مارا۔ ان قومی جرائم کے مقابلے میں عدالتوں نے ہوشہ فدیویت کی راہ میں عافیت ڈھونڈی: انھوں نے ان اقدامات کو جائز ٹھہرایا، ان حکمرانوں کے ہاتھ میں وہ قانونی و آئینی ہتھیار تھما دیے جن سے انھوں نے آئین اور عدلیہ کا حلیہ بگاڑ دیا، اور نہ خاموشی اختیار کی۔

ہم تسلیم کرتے ہیں کہ عدلیہ، قانوناً سب سے بالا مگر عملاً سب سے کمزور ادارہ ہے۔ اس کے پاس نہ فوج اور پولیس ہے، اور نہ خزانہ و مراعات، کہ وہ قوت یا ہارس ٹریڈنگ کے بل پر اپنی بات منوالے۔ ہم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ بہت سے ججوں نے یہ راہ عافیت کو کوشی کی خاطر نہیں، خود کو بے بس پا کر اختیار کی ہوگی (جیسا جسٹس منیر نے اعتراف کیا)، اگرچہ بے بسی عموماً ایک معروضی حقیقت سے زیادہ اپنی نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے، یا انھوں نے ملک کے مفاد میں بہتر سمجھا ہوگا کہ ان قانون شکنوں کے آگے سر تسلیم خم کر دیں تاکہ حکومت اور عدلیہ کے درمیان محاذ آرائی نہ ہو۔ لیکن اس کی کیا تاویل ہوگی کہ ضمانت پر رہائی جیسے معمولی سے معاملے میں بھی، لوگ جانتے ہیں، اگر حکومت نہ چاہے تو سپریم کورٹ تک سے ضمانت مانا محال ہوتا ہے۔ آج بھی بے شمار معروف لوگ طویل عرصے سے سلاخوں کے پچھے ہیں، ان کے خلاف مقدمہ بھی نہیں چلتا، ان کو ضمانت پر رہائی بھی نہیں ملتی۔ بہر حال

وجہ کچھ بھی ہو، یہ سب کچھ بے بسی کی بنا پر ہوا یا مصلحت کی خاطر، ایک درد مند شہری بار بار یہ سوچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اگر..... اگر.....

ایسے میں، ہمارے نزدیک یہ فیصلہ دراصل اس لیے تاریخی ہے کہ سپریم کورٹ نے، اپنی تاریخ میں دو سری دفعہ، ایک مطلق العنان حکومت کو دستور شکنی سے روک دیا ہے۔

-----

ہماری اس بات کی تائید محترمہ وزیر اعظم اور حکومت کی روش کرتی ہے۔ اگر معاملہ صرف چند ججوں کے آنے اور جانے کا ہوتا تو وہ اتنی چراغ پانہ ہوتیں، یوں سپریم کورٹ کے خلاف جنگ نہ چھیڑتیں۔ یقیناً ان کے غصے میں اس بات کو بھی دخل ہے کہ..... صدر، فوج اور امریکہ کی تین اطراف سے اپنے کو محفوظ پانے کے بعد، اور اپوزیشن کو کونے سے لگا دینے کے بعد--- اپنی مطلق العنانی کو مکمل کرنے کے لیے عدلیہ کو اپنے قابو میں کرنے کا جو منصوبہ وزیر اعظم بنا رہی تھیں وہ اس فیصلے سے درہم برہم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ وہ خوب جانتی ہیں کہ اگر ایک دفعہ عدلیہ نے حکومت کے فیصلوں اور اقدامات کو قانون کی، بلکہ انصاف کی بھی، ترازو پر تولنے اور غیر قانونی اور غیر منصفانہ اقدامات روکنے کے اختیار پر عمل درآمد شروع کر دیا تو پھر حکومت اوپر سے لے کر نیچے تک ہر دائرے میں قانون کا پابند ہونے پر مجبور ہوگی، اور وہ کوئی من مانا کام نہ کر سکیں گی۔ ظاہر ہے وہ ایسی حکومت کرنے کے لیے نہیں ”پیدا“ ہوئی ہیں۔ ابھی تو وہ ٹائمز میگزین (لندن) کی طرف سے ”دنیا کی طاقت ور ترین خاتون“ قرار دینے جانے کے نشے سے محمور ہی تھیں، کہ سپریم کورٹ کے فیصلے نے ان کا مزہ کر کر کر دیا۔ عدلیہ کے بارے میں ہی ان کے سنہرے خواب نہیں ٹوٹے، مستقبل کے بارے میں بھی ذراؤنے خواب ان کی نگاہوں کے سامنے آ گئے۔ اس لیے وزیر اعظم کا رد عمل ہمارے لیے بالکل حیران کن نہیں، بلکہ بالکل قابل فہم ہے، اگرچہ انتہائی افسوس ناک ضرور ہے۔ وہ گریہ کشتن روز اول کے اصول پر عمل پیرا ہیں۔

ایک سانس میں وہ عدلیہ کی آزادی اور اس کے فیصلوں کی پابندی کا دم بھرتی ہیں، دو سری سانس میں وہ سپریم کورٹ کے خلاف انتہائی گھٹیا اور رکیک لب و لہجہ اور الفاظ استعمال کرتی ہیں۔ وہ کچھ کہتی ہیں جسے اخبار نویس نقل کرنے سے بھی عاجز ہونے کا اعتراف کرتے ہیں۔ ایسی تصویر بنتی ہے جیسے کوئی روایتی جھگڑالو خاتون کھڑی ہیں، چہرہ سرخ ہے، رگیں پھول رہی ہیں، منہ سے جھاگ نکل رہے ہیں، اول فول بک رہتی ہیں، آستینیں چڑھی ہوئی ہیں اور ان کا بس نہیں چل رہا کہ سپریم کورٹ، صدر، اپوزیشن، میڈیا اور جانے کس کس کا بھر کس نکال دیں۔

کبھی وہ صدر کے پاس جاتی ہیں کہ ججوں پر آئین سے غداری کے جرم میں مقدمہ چلایا جائے، کبھی چیف جسٹس کو برطرف کرنے کا حکم جاری کرنے کا مشورہ دیتی ہیں۔ کبھی آرڈی نانس کے ذریعے

اس فیصلے کو کالعدم کرانا چاہتی ہیں۔ کبھی کہتی ہیں کہ یہ فیصلہ غصے میں لکھا گیا ہے، کبھی یہ کہ ذاتی انتقام کی خاطر۔ کبھی کہتی ہیں کہ فرد واحد کی مرضی نہیں چلے گی، پتا نہیں چلتا کہ فرد واحد سے ان کی مراد چیف جسٹس ہیں یا صدر؟ کبھی متفقہ کی آزادی و بلا تری کی دہائی دیتی ہیں، جس سے ان کی مراد اپنی بلا تری ہوتی ہے، اس لیے کہ پارلیمانی کابینائی نظام میں متفقہ اور حکومت یک جان و دو قلب بن چکے ہیں۔ کبھی کہتی ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حکومت پیپلز پارٹی کی ہو اور جج جماعت اسلامی کے لگائے جائیں، اس طرح تو حکومت کا نظام تباہ ہو جائے گا۔

ہم وزیر اعظم کے ذاتی حلقوں اور رریک الزامات کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ان کا نوٹس لیا جائے۔ ان کے بارے میں اخبارات میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ انھوں نے، ان کے حواریوں نے، اور چند سنجیدہ حلقوں نے اس فیصلے پر جو قانونی و آئینی اعتراض اٹھائے ہیں، ان کا بھی کافی جواب دیا جا چکا ہے۔ لیکن ان میں سے چند مباحث ایسے ہیں جن پر مزید گفتگو ضروری محسوس ہوتی ہے۔ ان مباحث کا بڑا گہرا اور بنیادی تعلق، ملک میں قیام عدل اور ایک اسلامی و جمہوری ریاست و معاشرے کے قیام سے ہے۔

-----

پہلا مبحث ایک منتخب، جمہوری حکومت اور عدلیہ کے درمیان اختیارات کی تقسیم سے متعلق ہے۔ اس فیصلے کے ساتھ ہی بڑے زور و شور سے یہ بات اٹھائی گئی کہ عدلیہ نے منی آئین بنایا ہے، انتظامیہ کے دستوری اختیار پر پابندی لگائی ہے، دستور کی ایک شق کو کالعدم قرار دے دیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اصل ساورن (Sovereign - مقتدر) ادارہ پارلیمنٹ ہے جو عوام کی منتخب کردہ ہے، آئین میں ترمیم اس کا کام ہے، یہ فیصلہ ایک عوامی ادارے کے اختیارات میں مداخلت ہے۔ شریعت بل کے وقت بھی پارلیمنٹ کے ساورن ہونے کا نعرہ بلند کر کے، پورے پارلیمانی نظام کو شریعت کے دائرے سے باہر قرار دلوا یا گیا تھا۔ اس ضمن میں بار بار برطانیہ کی مدر (mother) پارلیمنٹ کی مثال بھی دی جاتی ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ پارلیمنٹ کی ساورنٹی کے افسانے (myth) کو بے نقاب کر دیا جائے۔

پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں، قانوناً، اصل ساورن دستور ہے۔ اس دستور میں پارلیمنٹ کی مطلق ساورنٹی اور بلا تری کا دور دور پتا نہیں چلتا۔ یہ صحیح ہے کہ قانون وہی بنا سکتی ہے، لیکن قانون کے دائرے میں عدلیہ کا اختیار اس سے بالاتر ہے۔ عدلیہ کو دستور و قانون کی تعبیر و تشریح کا اختیار ہے، اور یہ حتمی اختیار ہے۔ حکومت اور پارلیمنٹ، سب اس کی تعبیر و تشریح کے پابند ہیں۔ عدلیہ، عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ کے منظور کیے ہوئے جس قانون کو دستور سے متصادم قرار دے، وہ اس کو کالعدم کر سکتی ہے، وزیر اعظم کے وکلا یا ان کے چیورسٹ دوست کچھ بھی کہتے رہیں۔ اسی طرح،

دستور کے مطابق 'پارلیمنٹ کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتی جو قرآن و سنت کے خلاف ہو' نہ کسی صوبے کی اجازت کے بغیر اس کی حدود میں تغیر کر سکتی ہے۔ یہ عجیب بے بس ساورٹی ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ دو تہائی اکثریت سے دستور میں ترمیم کا اختیار بلاشبہ پارلیمنٹ کے پاس ضرور ہے۔ اس سے بظاہر یہ ثابت ہوتا ہے کہ حکومت 'دو تہائی اکثریت کی بل پر' دستور میں جو چاہے ترمیم کر سکتی ہے۔ سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کو بھی کالعدم کر سکتی تھی، اگر اس کے پاس دو تہائی اکثریت ہوتی۔ اس طرح بالآخر سب سے مقتدر حکومت اور پارلیمنٹ بن ٹھہرے، کہ دستور کو بھی بدل سکتے ہیں۔

یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ قانوناً حکومت الگ چیز ہے اور پارلیمنٹ الگ اور حکومت پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے۔ لیکن ہم حکومت میں پارلیمنٹ کو شامل سمجھ کر بات کر رہے ہیں۔ کیونکہ کسی بھی پارلیمانی جمہوریت میں 'اور خصوصاً پاکستان میں' عملاً ایسی صورت حال ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ برطانیہ میں پارلیمنٹ نے بالآخر تو انتظامیہ (بادشاہ) کے مقابلے میں حاصل کی تھی، لیکن بالآخر وہ "بادشاہ" کے وزراء کے ماتحت ہو گئی ہے۔ جن کی اکثریت ہوتی ہے، وہی وزیر بنتے ہیں، پھر وہ وزیر اپنی اکثریت کے بل پر ہر قسم کے قانونی اور انتظامی فیصلوں اور اقدامات کے اختیار کے مالک ہوتے ہیں۔ اب جھگڑا متفقہ بمقابلہ انتظامیہ نہیں، انتظامیہ و متفقہ بمقابلہ عدلیہ و عوام ہے۔ بہر حال یہ ایک الگ دلچسپ بحث ہے۔ (برطانوی ہائی کورٹ کے جسٹس لاز (Laws) ات "جمہوری استبداد" (democratic tyranny) سے تعبیر کرتے ہیں)۔

بہ غور دیکھا جائے تو پارلیمنٹ کی یہ مطلق بالاتری صرف ظاہری و قانونی ہے، حقیقی نہیں کہ استعمال ہو سکے۔ اختیار ہونے کے باوجود کیا پارلیمنٹ دستور میں ترمیم کر کے اپنی مدت میں غیر معینہ توسیع کر سکتی ہے؟ کیا وہ بنیادی حقوق ختم کر سکتی ہے؟ کیا وہ صوبائی خود مختاری ختم کر کے وحدانی حکومت قائم کر سکتی ہے؟ کیا وہ عدلیہ کو ختم کر سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ عملاً ان میں سے کوئی ترمیم نہیں کر سکتی۔ ہم آگے بڑھ کر پوچھتے ہیں کہ کیا وہ قرار داد مقاصد حذف کر سکتی ہے؟ کیا وہ اسلام کا مقام بہ حیثیت ریاست کے مذہب کے نکال سکتی ہے؟ کیا وہ اپنے اوپر سے یہ پابندی ختم کر سکتی ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف قانون نہ بنائے؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ 'خواہ دستور میں لکھا نہ ہو' مگر دستور کے کچھ حصے ناقابل ترمیم ہیں۔ پوری پارلیمنٹ متفقہ طور پر بھی قانون سازی کے ذریعے ان کو ختم نہیں کر سکتی۔ ان کو صرف کوئی انقلاب ہی ختم کر سکتا ہے، 'عوامی ہویا فوجی'۔ دیکھا جائے تو ان میں سے کسی سے اسلام ختم ہوتا ہے، کسی سے جمہوریت، کسی سے قیام عدل، کسی سے ملک کے باشندوں کا یہ حق کہ حکومت ان کی مرضی سے

آئے اور جائے کسی سے ان کے بنیادی حقوق اور کسی سے ملک کی وفاقی حیثیت۔

اس حقیقت کو بنیاد بنا کر 'بھارت کی سپریم کورٹ ایک فیصلہ کر چکی ہے جو فی الواقع انقلابی نوعیت کا ہے۔ اندرا گاندھی نے دستور میں ترمیم کی اور کچھ بنیادی حقوق حذف کر دیے۔ سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کی دو تہائی اکثریت سے منظور کردہ دستوری ترمیم کو اس بنیاد پر کالعدم کر دیا کہ یہ دستور کی بنیادیں ہیں اور ان میں ترمیم نہیں کی جاسکتی۔ اس کے لیے کوئی نص خود دستور میں یا کہیں بھی موجود نہ تھی، صرف بائیان دستور کی نیت اور ارادے سے استدلال ممکن تھا۔ حکومت 'پارلیمنٹ' عوام نے اس فیصلے کو تسلیم کر لیا، حالانکہ یہ صریحاً دستور سے ماوراء فیصلہ تھا۔ ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ہماری سپریم کورٹ نے ججوں کے شریعت کورٹ میں تبادلے کے بارے میں ۲۰۳ سی کے نفاذ کو مسترد کرنے کے لیے بھارتی سپریم کورٹ کی طرح، اس مضبوط دلیل کو بنیاد کیوں نہ بنایا، کہ عدلیہ کی آزادی کسی بھی ترمیم سے ناقابل تنسیخ ہے، اور کیوں یہ کمزور استدلال اختیار کیا کہ کیوں کہ ۲۰۳ سی مارشل لا کی داخل کردہ ہے اس لیے مروج ہے۔

ہمارے ہاں دستور پارلیمنٹ سے بالاتر قانون ہے، اگرچہ بظاہر اس کی دو تہائی اکثریت سے بالاتر نہیں، مگر خود برطانیہ میں بھی 'جہاں کوئی تحریری دستور نہیں، جہاں پارلیمنٹ (Queen in Parliament) فی الواقع مقتدر اعلیٰ ہے، اس کی قانون سازی پر کوئی پابندی نہیں، اور اس کے کسی قانون کو کالعدم نہیں قرار دیا جاسکتا، یہ اصول تسلیم کیا جاتا ہے کہ ایک قانون ایسا ضرور ہے جو پارلیمنٹ سے بھی مقدم اور بالاتر ہے۔ ایسا نہ ہو تو خود پارلیمنٹ کے مطلق اختیار کی کوئی قانونی بنیاد نہیں رہ جاتی۔ سالمنڈ (Salmond) اپنی کتاب چیورس پروڈنس میں اسے "حتمی قانونی اصول" (ultimate legal principle) کا نام دیتا ہے۔ سرولیم ویڈ (Wade) کہتے ہیں کہ "یہ ایسا اصول ہے جو اس لحاظ سے بنتا ہے کہ کوئی پارلیمنٹ اس کو بدل نہیں سکتی۔ اس کی حفاظت عدالت کی تحویل میں ہوتی ہے، اور پارلیمنٹ کا کوئی ایکٹ یہ اختیار اس سے واپس نہیں لے سکتا،" (کونٹ لا جرنل '۱۹۵۵' ص ۱۷۲)۔ ہائی کورٹ کے جسٹس سر جان لاز (Laws) اس کو اعلیٰ تر قانون (higher-order law) کا نام دیتے ہیں، اور اس کی بالاتری کی بحث بڑے اہم انداز میں اٹھاتے ہیں: جمہوریت کی بقا اور نشوونما خود اس بات کی متقاضی ہے کہ جو سیاسی جمہوری اختیارات استعمال کرتے ہیں ان پر تحدید ہو، اور وہ اپنی حدود سے تجاوز نہ کریں... [اسی طرح] بنیادی حقوق کے تحفظ کا تقاضا ہے کہ ان کے لیے ایک بالاتر قانون ہو جسے دوسرے قوانین کی طرح صرف درکار اکثریت کے ذریعے منسوخ نہ کیا جاسکے۔ ورنہ ان حقوق کی کوئی ضمانت نہیں۔ پھر یہ حقوق نہیں، مراعات ہیں۔ اس لیے حاصل ہیں کہ حکومت دے رہی ہے، اس لیے نہیں کہ حق ہے۔ ایک منتخب حکومت کو یہ

اختیار نہیں دیا جاسکتا کہ وہ دستور کی ان بنیادوں کو منہدم کر دے.... ہر مستبد حکمران یہی کہتا ہے کہ میرا ہر لفظ قانون ہے۔ اگر ایک منتخب ادارہ بھی یہی دعویٰ کرے کہ اس کا اختیار قانون سازی کسی تحدید یافتہ و نظر کا پابند نہیں، تو وہ مستبد کیوں نہیں۔ اس لیے لازم ہے کہ دستور کی بنیادیں حکومت کی تحویل میں نہ ہوں، کوئی حکومت اپنی اکثریت سے ان کو تباہ نہ کر سکے۔ وہ عدالت کی تحویل میں ہوں۔ اگر حکمرانی قانون کے مطابق ہونا ہے تو یہ ناگزیر ہے۔ (ہینک لا، ۱۹۹۵، ص ۸۱-۸۵)

خوش قسمتی سے ہمیں ”دہم مطلق“ چیزوں کی تلاش میں ’اندھیروں میں ٹامک ٹونیاں مارنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے پاس اللہ کی حاکمیت اعلیٰ اور قرآن و سنت کی صورت میں ’بالاترین اور ناقابل تغیر و تبدل قانون (لَا مَبْدُولَ لِكَلِمَاتِهِ) موجود ہیں۔ ہم نے ان کو اپنے دستور کا حصہ ضرور بنا لیا ہے مگر یہ دو سری دفعات کے مقابلے میں ناقابل ترمیم ہیں۔ ”قرار داد مقاصد“ اور ”اسلام بحیثیت ریاست کا مذہب“ جس کا منبج بھی قرار داد مقاصد ہی ہے، اسی دستوری حقیقت کے آئینہ دار ہیں۔ جب قوم نے تسلیم کر لیا کہ حاکم اللہ تعالیٰ ہے اور زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنا ہے، تو ریاست کا مذہب اسلام ہو ہی گیا۔

یہ دونوں دفعات دستور کا حصہ بھی ہیں، اور دو سری دفعات سے بالاتر بھی۔ پھر دستور کے دوسرے حصے ہیں جو قرآن و سنت کی نصوص سے اجماعاً ثابت ہیں، اور جن پر پاکستان میں اجماع منعقد بھی ہو چکا ہے یعنی عدل کا قیام، یہ اسلام کے احکام میں سرفہرست اور سب سے مقدم ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ بنیادی حقوق، یہ سب نصوص سے ماخوذ ہیں، اللہ اور اس کے رسولؐ کے دیے ہوئے ہیں، کسی جدید کونشن سے ماخوذ نہیں۔ جمہوریت، یعنی عوام کا یہ حق کہ امور مملکت ان کے مشورے اور مرضی سے چلائے جائیں اور حکمرانوں کا عزل و نصب ان کے اختیار میں ہو، یہ بھی نص قرآنی ہے اور چودہ سو سال سے امت میں متفق علیہ۔ ملک کی وفاقی حیثیت کا مدار براہ راست کسی نص پر نہیں، لیکن پاکستان ایک سماجی و سیاسی معاہدے کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے۔ وفاق اس معاہدے کا جز ہے، اسی بنیاد پر صوبے اس میں شامل ہیں۔ اس معاہدے کی پابندی اَوْفُوا بِالْعُقُودِ اور وَاَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ اور اَنْ تَكُوْنَ اُمَّةً هِيَ اَرْبٰی مِنْ اُمَّةٍ کے تحت لازم ہے۔ ان میں سے کسی چیز کو بھی کسی بھی جمہوری حکومت کو --- ۱۰۰ انی صد اکثریت سے بھی --- منسوخ کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور نہ ہونا چاہیے۔

ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ دستور کی ان دفعات کی بالاتر کی کو سپریم کورٹ، آئین کی تشریح و تعبیر کے ذریعے دستور کا حصہ بنا دے۔ اب اس فیصلے میں ۲۰۹ کو ۲۰۳ سی سے بالاتر قرار دے کر، سپریم کورٹ نے اس اصول کو تسلیم کر لیا ہے کہ دستور کی ایک دفعہ دو سری دفعہ کو غیر موثر

کر سکتی ہے۔

اگر یہ اصول پہلے سے تسلیم کیا ہوا ہوتا، تو شریعت کورٹ میں تبادلے کے بارے میں ۲۰۳ سی کو اسلام میں قیام عدل کی نصوص سے، 'قرار داد مقاصد میں عدلیہ کی آزادی کی ضمانت کی شق سے متصادم ہونے کی بنا پر بھی کالعدم قرار دیا جاسکتا تھا' اور کم سے کم شریعت کورٹ کے ججوں کی شرائط ملازمت تو واضح طور پر، '۲۰۳ سی کی طرح' ۲۰۹ سے متصادم ہیں۔ ان شرائط کے بارے میں کوئی درخواست دائر ہو تو اس کا فیصلہ اس فیصلے سے مختلف کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ یہ نظریہ ہی کا کام نہیں کرے گا، 'نافذ العہد بھی ہو گا۔

دوسرا اہم محث 'انتظامیہ کے اختیارات کی حدود کا ہے۔ کہا گیا ہے کہ ججوں کے تقرر کے سلسلے میں مشورے کی یہ تعبیر --- کہ قابل قبول منفی وجوہات کی عدم موجودگی میں حکومت 'چیف جسٹس کے مشورے پر عمل کی پابند ہے --- حکومت کے اختیار پر ایک خلاف دستور پابندی ہے۔ وجوہات بتانے کا مطالبہ 'دفعہ ۲۸ (۲) کے خلاف ہے جو عدالت کو وزیر اعظم کے مشورے کے بارے میں انکو اڑی سے روکتی ہے۔

”مشورے“ کی تعبیر کے بارے میں فیصلے میں طویل اور مضبوط دلائل دیے گئے ہیں۔ اس موضوع پر کسی مزید گفتگو کی چنداں ضرورت نہیں۔ اس کی تعریف معطلے کی نوعیت پر منحصر ہوگی جو متعین کرنے کا اختیار صرف سپریم کورٹ ہی کو ہے۔ ظاہر ہے کہ چیف جسٹس کا مشورہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دینے کے لیے دستور میں درج نہیں کیا گیا۔ اس کا مقصد اہل افراد کا تقرر یقینی بنانا ہے۔ اسی مقصد کے لیے سپریم کورٹ نے وہ تعبیر ضروری سمجھی ہے جو فیصلے میں درج ہے۔ لیکن اس مسئلے پر قیام عدل کے وسیع پس منظر میں غور و فکر ضروری ہے، اس لیے کہ یہ حکمرانوں کے اختیارات کے استعمال کو عدل پر قائم رکھنے کے مسئلے کا ایک حصہ ہے۔

قیام عدل، قانون کے سامنے مساوات اور قانون کے یکساں تحفظ کے مقاصد صرف مجرموں کو سزائیں دینے سے حاصل نہیں ہوتے۔ قیام عدل، قانون کی حکومت قائم کرنے کا نام ہے، تاکہ کوئی کسی کا حق نہ مار سکے، خصوصاً کوئی طاقت ور کسی کمزور کے ساتھ زیادتی یا ناانصافی نہ کر سکے۔ کیونکہ اصل طاقت ور وہ ہیں جن کے پاس حکومت کی قوت ہوتی ہے، اس لیے قیام عدل کے معنی، خصوصاً اس امر کو یقینی بنانا ہے کہ کوئی حکومتی یا پبلک عہدے دار یا ادارہ --- چھوٹا ہو یا بڑا، منتخب ہو یا غیر منتخب، صدر ہو یا وزیر اعظم، فوجی جنرل ہو یا سول سیکرٹری، تھانے دار ہو یا پٹواری، جو لوگوں کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کرنے کے لیے کسی بھی اختیار اور طاقت کا حامل ہے، وہ --- قانون اور اپنی حدود سے

تجاوز نہ کرنے پائے، نہ کسی کے ساتھ بے انصافی اور ظلم کا مرتکب ہو، نہ کسی کا حق مارے۔ اس مقصد کے لیے یہ ناگزیر ہے کہ تمام حکومتی اہل کار اور ادارے، اپنے فیصلوں اور اقدامات کے لیے عدالتوں کے سامنے جواب دہ ہوں۔

قرآن و سنت میں ظلم اور عدل کے یارے میں بے شمار نصوص میں، اس قیام عدل کے التزام کی شدت کے ساتھ تاکید موجود ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی ساتھ ساتھ، اپنے قائم بالعدل ہونے پر خود اپنی، فرشتوں کی اور تمام اہل علم کی گواہی دی ہے (آل عمران ۲: ۱۸)۔ مولانا اصلاحی کے الفاظ میں ”عدل و قسط کا درجہ صفات الہی میں اتنا بلند و ارفع ہے کہ توحید کے بعد سب سے پہلے جس کا ذکر ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ قائم بالقیسط ہے۔“ قسط کا مفہوم وہی ہے جو ہم عام بول چال میں حق، عدل اور انصاف وغیرہ کے الفاظ سے ادا کرتے ہیں۔ اس کا ضد ظلم، جور اور اس معنی کے دوسرے الفاظ ہیں۔“ انسان کی فطرت گواہ ہے کہ خالق نے انسان کو عدل پسند بنایا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ وہ دنیا کو ”ایک نظام عدل و قسط کے تحت چلا رہا ہے۔“ کائنات گواہ ہے کہ اس کے ہر گوشے میں خالق نے ”ایک میزان رکھی ہے۔“ اور وہ خود ”عدل و قسط کو پسند کرتا ہے، یہ نہیں چاہتا کہ اس کی مخلوقات میں سے کوئی چیز اس عدل و قسط سے بال برابر انحراف کرے۔“ چنانچہ وہ کتا ہے ”دیکھو میزان کے معاملے میں تجاوز نہ کرو۔ بلکہ انصاف کے ساتھ وزن قائم کرو۔ اور نہ میزان میں کوئی کمی کرو۔“ (الرحمن ۵۵: ۸-۹)

اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے اور کتاب و میزان اتارنے کی غایت بھی یہی بیان فرمائی ہے: ”تا کہ لوگ قسط پر قائم ہو جائیں،“ (الحديد ۲۵: ۵۷)۔ امت کا مقصد بھی اس نے یہی متعین کیا ہے: ”اللہ کے لیے، قسط کو قائم کرنے والے اور قسط پر گواہ بنو،“ (النساء ۳: ۱۳، المائدہ: ۸)

اسی قیام عدل کے لیے اس نے اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام کیا ہے، اور بندوں کے مابین بھی۔ پھر اس نے قیام عدل کے لیے انسانیت کے واسطے پوری امت پر سے، مجموعی طور پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری عائد کی ہے۔ سب سے بڑا معروف، توحید کے بعد عدل ہی ہے، اور سب سے بڑا منکر، شرک کے بعد ظلم۔ پھر مسلمانوں کے درمیان یہ ذمہ داری تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر ڈالی ہے: ”وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔“ ایک گروہ کا لازماً موجود رہنا جو یہ کام کرے، ضروری قرار دیا ہے، ”وَلَنْجَنِّيَنَّكُمْ أُمَّةً۔“ الخ۔ سیاسی اختیار ملے تو اولین فرائض میں اس کو شامل کیا ہے، ”الَّذِينَ أَنْكَرْتَهُمْ فِي الدَّارِضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ۔“ لوگوں کے درمیان تمام فیصلہ کرنے والوں کو حکم دیا

کہ عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ وَإِذْ أَحْكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ (النساء ۵۸:۳) اور فیصلہ کرو تو ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو، وَإِنْ حُكِمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ (المائدہ ۵:۴۲)۔ تفصیل کا وقت نہیں، لیکن نبی کریمؐ سے لے کر بڑے بڑے دنیا دار اور مطلق العنان بادشاہوں تک اگر ہماری تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ حکمران عام آدمیوں کی طرح عدالتوں کے سامنے جواب دہ ہوتے تھے، تو یہ قرآن اور رسول اللہؐ کی انھی تعلیمات کی وجہ سے ممکن ہوا۔ ریاست اور دستور کے لیے چارٹر وہ ہے جو خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیقؓ نے خلافت سنبھالنے کے بعد، اپنے افتتاحی خطاب میں پیش کیا: ”میں ایک انسان بن ہوں، صحیح بات بھی کہتا ہوں اور غلط بھی۔ اگر میں صحیح کام کروں تو میری مدد کرنا، اگر میں غلط کام کروں تو مجھے ٹھیک کر دینا.... دیکھو، تم میں سب سے زیادہ طاقت ور میرے نزدیک سب سے کمزور ہے یہاں تک کہ میں اس سے حق وصول کر لوں، اور تم میں سب سے کمزور میرے نزدیک سب سے طاقت ور ہے، یہاں تک کہ میں اس کے لیے اس کا حق وصول کر لوں۔“ یہی کلمات حضرت عمرؓ نے ارشاد فرمائے۔ اسی لیے وہ اپنے گورنروں کا خود احتساب کرتے تھے، ان کو سزائیں بھی دیتے تھے اور ان سے حق اور قصاص بھی دلواتے تھے۔ اگر کسی گورنر نے کسی کو غلط کوڑے مارے ہوتے تھے تو مدعی کے ہاتھ میں کوڑا تھا دیتے کہ گورنر کو مارو۔

بد قسمتی سے ہمارا دستور یا ہمارا کوئی قانون اسلام کے ان احکام اور روایات کا پوری طرح حامل نہیں ہے۔ بلکہ اسلئے، دستور میں ان احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ۲۴۸ کے تحت تمام منتخب حکمرانوں کو اپنی حکومتی اختیارات کے استعمال یا فرائض کی بجا آوری کے سلسلے میں ہر قسم کی عدالتی جواب دہی سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر، دورانِ عہدہ ہر قسم کی عدالتی کارروائی سے بھی۔

ہاں، حکمرانوں کو خلاف قانون کاموں سے روکنے اور قانون کے مطابق اقدامات کرنے کے لیے، درخواست دیے جانے پر، پروانے اور احکام جاری کرنے کے اختیارات دفعہ ۱۹۹ کے تحت، ہائی کورٹ کو دیے گئے ہیں، اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی صورت میں سپریم کورٹ کو از خود بھی احکام جاری کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ یہ اختیارات ایک درجے میں اسلام کے بنیادی احکام کا تقاضا پورا کرتے ہیں اور حکومتی اہل کاروں اور اداروں کے فیصلوں کے عدالتی نقد و نظر کا دروازہ کھولتے ہیں، لیکن مختلف عوامل کی وجہ سے یہ نقد و نظر برائے نام ہی ہو رہا ہے: یہ عوامل، عوام کی غربت و جہالت، انصاف کی گرانی، حکومتی اہل کاروں کی طاقت، اور خود عدلیہ کی سرد مری اور محتاط روش، ہیں۔ خصوصاً سچ حضرات قانون کی خلاف ورزی کی تعریف میں قانونی اختیارات کی لفظی تعبیر سے تجاوز سے آگے جانے کو عموماً تیار نہیں، اور انتظامیہ بھی اس سے زیادہ کچھ دینے کے لیے تیار نہیں۔

لیکن یہ بات اب ہمارے ہاں متعدد مقدمات میں آچکی ہے کہ حکمرانوں کے فیصلوں کے سلسلے میں عدالت قانونی الفاظ سے آگے بڑھ کر، بدنیٹی یا طریق کار کی بے انصافیوں یا فطری انصاف کے اصولوں کی خلاف ورزی کا کھوج بھی لگا سکتی ہے۔ جو نیچو اسمبلی کی برطرنی کے بعد، یہ بات بھی طے ہو گئی کہ صدر کے خالص صوابدیدی اختیارات کے استعمال کو، نامعقولیت اور مبنی بر انصاف نہ ہونے کی بنیاد پر بھی عدالت کا عدم قرار دے سکتی ہے۔ نواز شریف کیس میں ایک محترم جج یہ بھی لکھ چکے ہیں کہ چیف آف سٹاف کا تقرر بھی عدالت کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں۔ اتنی روایات اور فیصلوں کی روشنی میں، سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ کہ --- اس کی سفارش قبول نہ کیے جانے کی صورت میں اسے وجوہات چنائی جائیں، اور معقول منفی وجوہات نہ ہوں تو مشورہ قبول کیا جانا چاہیے --- کسی طرح بھی انتظامیہ کے اختیار میں مداخلت نہیں کہا جاسکتا۔ بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ صدر یا حکومت کے جس حکم سے دستور کے بنیادی مقاصد مجروح ہوتے ہیں یا جس کو جاری کرنے میں قانون، انصاف یا معقولیت کے تقاضے مجروح ہوتے ہوں، عدالتیں اس کا جائزہ لے سکتی ہیں اور اس کو صحیح کر سکتی ہیں۔

منجانب حکمرانوں کا عدالتی جواب دہی سے استثناء تو اسی وقت ختم ہو سکتا ہے جب دفعہ ۲۴۸ کو دفعہ ۲ اور ۲- لے کے متناقض قرار دے کر اس پر عمل درآمد ختم کر دیا جائے۔ لیکن ایسا نہ بھی ہو تو قرارداد مقاصد، مذہب اسلام اور قیام عدل کے جو تقاضے ہیں، اب تک ہماری عدالتیں جو نظائر قائم کر چکی ہیں، انگلستان اور ہندوستان کی عدالتوں نے جو عدالتی فعالیت اختیار کی ہے اور کر رہی ہیں، ان کو سامنے رکھ کر ہماری عدالتیں کچھ سرگرمی دکھائیں تو ان کے لیے حکومت پر قانون کی حکومت قائم کرنے کے لیے بڑا میدان موجود ہے۔

بھارت میں عدالتوں کو اتنے ہی اختیارات ہیں جتنے ہمارے ہاں ہیں اور وہ بہت کچھ کر رہی ہیں۔ انگلستان میں عدالتوں کو ایسے کوئی اختیارات حاصل نہیں، کوئی ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں، جو انہیں پبلک اہل کاروں اور اداروں کے فیصلوں اور اقدامات کے بارے میں عدالتی کارروائی کا اختیار دیتا ہو، لیکن گذشتہ ۳۰ سال میں، عدالتوں نے جو ڈیشیل ریویو (عدالتی جائزہ یا نقد و نظر) کے نام پر اتنے اختیارات حاصل کر لیے ہیں اور پبلک لاکے نام سے اتنا وسیع قانونی نظام وضع کر لیا ہے کہ حیرت انگیز ہے۔ جہاں ساورن صرف پارلیمنٹ ہے، وہاں ہائی کورٹ کے جج، سراسٹیفن لیڈے لکھتے ہیں:

”گذشتہ تیس سال کی عدالتی نقشہ گری کا نتیجہ یہ ہے کہ اب وہ ”پارلیمنٹ“ ختم ہو رہی ہے جس کے سامنے قانون کی حکومت بھی جھک جاتی تھی۔ اب دو محوری ساورنٹی ہے: ایک ”تاج“، بذریعہ پارلیمنٹ کی، اور دوسری ”تاج“، بذریعہ عدالت کی۔ ”تاج“ کے وزرا دونوں کے سامنے جواب دہ ہیں: سیاسی طور پر پارلیمنٹ کے سامنے، قانونی طور پر عدالت کے سامنے، (پبلک لا،

۱۹۹۵ء (ص ۳۸۹)۔ یہ نتیجہ ہے اس نظریے کا کہ ”عدل“ قانون پر مقدم ہے اور قانون کا بنیادی فریضہ طاقت ور کے مقابلے میں کمزور کا تحفظ ہے۔“ یہ تصور کہ حقوق انسانی اور قانون کی حکمرانی کا بنیادی فریضہ طاقت ور کے مقابلے میں کمزور کی حفاظت کرنا ہے، نری جذباتیت ہیں۔ یہ قانون کی نظروں میں سب کی یکسانیت اور مساوات کی پیداوار ہے، (ایضاً، ص ۳۹۷-۳۹۹)۔

سوچنا چاہیے کہ ہماری سپریم کورٹ، از خود (سوموٹو) بنیادی حقوق کے تحفظ کے اختیار کو استعمال کرے، تو ”قانون کی نظروں میں سب کی برابری“ کے حق کے تحت کیا کچھ نہیں کر سکتی۔

دوسرے جج، سرجان لازمیزید وضاحت کرتے ہیں: ”جو ڈیشیل ریویو کے لیے ہم ججوں کا دائرہ

اختیار اب اتنا وسیع ہے کہ ہم اصولاً ہر پبلک باڈی (فرد یا ادارے) کے ہر فیصلے کی عدالتی نگرانی کر سکتے ہیں۔ اس سے کوئی فی الواقع مستثنیٰ ہے تو وہ پارلیمنٹ کا پاس کردہ قانون.... یہ استثنا بھی اب

یورورپین یونین کے قانون کا پابند ہے.... ”شاہی اختیار (Royal Prerogative) کے استعمال کو بھی [جو ہمارے ہاں صدر کے صوابدیدی سے بڑا اختیار ہے] اب ڈیوٹرل کورٹ کی سطح پر عدالتی دائرہ

اختیار میں شامل کر لیا گیا ہے۔“ (بیلک لا، ۱۹۹۵ء، ص ۷۵)۔ وہ کہتے ہیں: جو ڈیشیل ریویو کے اصول اس تصور پر مبنی ہیں کہ ریاستی حکام کا کردار اخلاقی طور پر نیک اور بھلا ہونا چاہیے۔ چنانچہ صرف یہی

نہیں دیکھا جاتا کہ ان کے فیصلے قانون کے الفاظ کے مطابق ہیں یا نہیں، بلکہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ معقول ہیں یا نہیں، اختیارات کا استعمال منصفانہ ہے یا نہیں، جو طریق کار اختیار کیا گیا وہ منصفانہ ہے یا

نہیں۔ قانونی اختیار کو بھی اتنا وسیع نہیں لیا جاتا جتنا الفاظ بتاتے ہوں۔ یہ سب اصول ججوں کے بنائے ہوئے ہیں، کسی پارلیمنٹ نے نہیں بنائے۔ ان کو قبولیت عام حاصل ہے۔ ان سے حکومت یا کسی منتخب

ادارے کو اپنے اختیارات میں مداخلت محسوس نہیں ہوتی۔ (ایضاً، ص ۷۸ تا ۸۱)

ہم نے یہ تفصیل اس لیے بیان کی کہ، اسلام کے احکام کو تو جانے دیجیسے، ہمارے ہاں تو صرف مشورے کو با مقصد اور کارگر بنانے پر یہ شور و غوغا ہے۔ ایک جدید سیکولر ریاست میں تو وزیر

بھی عدالت کے سامنے جواب دہ بنائے جا رہے ہیں، اور دیگر حکام بھی۔ اور ان کے احکام کو صرف لفظ قانون نہیں، بلکہ روح قانون اور مقصد قانون، قیام عدل اور طاقت ور کے خلاف کمزور کے تحفظ کے

اصولوں پر جانچ کر ان کو حدود کا پابند کیا جا رہا ہے۔ پھر یہ کام ہمارے ہاں کیوں نہ ہو جب کہ یہ اسلام کا عین تقاضا ہے اور ریاست فرد کی طرح اسلام کی پابند ہے کہ اس کا مذہب اسلام ہے۔

-----

تیسرا اہم محث دفعہ ۲۰۹ کو ۲۰۳ سی پر فائق و رائج قرار دینے کا ہے۔ دونوں متضاد ہیں، یہ تو بالکل واضح ہے۔ ۲۰۹ کے تحت ایک جج کو یہ تحفظ حاصل ہے کہ اس کو اس کے عہدے سے صرف

سپریم جوڈیشل کونسل ہی ہٹا سکتی ہے، '۲۰۰۳ء کے تحت حکومت، ایک ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا شریعت کورٹ میں تبادلہ کر سکتی ہے، جس سے اس کی شرائط ملازمت اتنی غیر محفوظ ہو جاتی ہیں کہ حکومت اس کو چڑا ہی بھی لگا سکتی ہے۔ یہ تضاد ترمیم کرنے والوں کا قصور ہے۔ عدالت کو تو یہ تضاد رفع کرنا ہی تھا، اور اس نے بالکل صحیح کیا کہ ۲۰۰۹ء کو ۲۰۰۳ء سی پرائیویٹ کیا۔ لیکن ہم ادب سے عرض کریں گے کہ اس مقصد کے لیے اس نے جو استدلال کیا وہ بہت کمزور اور متناقض ہے، یعنی یہ کہ دفعہ ۲۰۹ء بنیادیں دستور نے بنائی تھی، '۲۰۰۳ء سی مارشل لانے۔ کیا اگر ۲۰۰۳ء جیسی دفعہ دو تہائی اکثریت سے پاس ہوتی تو اسے غیر موثر نہ قرار دیا جاتا۔ اگر بنیادیں دستور ہی نے دو دفعات ایسی رکھی ہوں جو باہم متضاد ہوں، اور ان میں سے ایک مقصد دستور کی حیثیت رکھتی ہو، تو پھر کورٹ کیا کرے گی۔ مثلاً ہماری نظر میں دفعہ ۲۲۸ اور دفعہ ۴۵ (صدر کارم کا اختیار) دونوں دفعہ ۲ اور ۲-اے سے متضاد ہیں۔ (قتل کی سزا کے لیے دفعہ ۴۵ کا یہ تناقض تو لاہور ہائی کورٹ بھی تسلیم کر چکی ہے)۔

ہمارے خیال میں اس مقصد کے لیے ایک ہی مضبوط دلیل ہو سکتی تھی وہ یہ کہ چونکہ ۲۰۰۳ء سی عدلیہ کی آزادی کے منافی ہے، اس لیے وہ دفعہ ۲-اے سے متضاد ہے، چنانچہ اس پر عمل درآمد نہیں کیا جانا چاہیے کیونکہ ۲-الف کو اور آزادی عدلیہ کو تفوق حاصل ہے، یہ دستور کے ناقابل ترمیم حصے ہیں۔ مارشل لاہو یا پارلیمنٹ کوئی بھی ان میں ترمیم نہیں کر سکتا، نہ دستور میں ایسی ترمیم جو ان سے تناقض ہو۔ لیکن شاید سپریم کورٹ نے یہ استدلال اسی لیے اختیار نہیں کیا کہ وہ اس سے قبل قرار داد مقاصد کی فوقیت کے بارے میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو مسترد کر کے یہ قرار دے چکی تھی کہ سب دفعات برابر ہیں۔ حالیہ فیصلے کے نتیجے میں بھی اصولاً تو یہی نکلتا ہے کہ سب دفعات برابر نہیں ہیں، خواہ اس بنیاد پر کہ ایک بنیاد نے ڈالی ہے اور دوسری مارشل لانے، یا اس بنیاد پر کہ ایک ناقابل ترمیم بنیادی حصے سے متعلق ہے، دوسری اس حصے کے منافی ترمیم کر رہی ہے۔

یہ تو محترم جج ہی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے دوسری تعبیر کیوں اختیار نہیں کی، جبکہ ایسی تعبیر بھارت کی سپریم کورٹ بھی اختیار کر چکی ہے۔ لیکن اب جب کہ ہماری سپریم کورٹ کم سے کم یہ اصول تسلیم کر چکی ہے کہ دو دفعات متضاد ہوں تو دو میں سے ایک کو فوقیت دینا جائز ہے، تو وقت آ گیا ہے کہ وہ جرات کر کے اپنے سابقہ فیصلے پر نظر ثانی کرے اور قرار داد مقاصد (۲-اے) کو دستور کا بالاترین بنیادی، ناقابل ترمیم حصہ قرار دے، اور دستور کی جو دفعہ یا قانون اس سے متضاد ہو اس پر عمل درآمد کو غیر موثر کر دے۔ پھر ۴-اے سے استدلال کر کے، جب اور جیسا موقع آئے، وہ اسلام کے مقام، بنیادی حقوق، جمہوری اصول اور عدلیہ کی آزادی کو بھی یہی مقام دے کہ یہ چیزیں ناقابل ترمیم ہیں۔

ایسا کیے بغیر اس ملک میں کبھی قانون کی حکومت اور عدل کا قیام عمل میں نہیں آئے گا۔ اس کے بغیر ان الجھنوں سے ہرگز نجات نہیں ملے گی جن میں آج پورا ملک اور عدالتیں پھنسی ہوئی ہیں۔ اسی اقدام سے ایک ترقی پذیر 'پراسن' عادلانہ اور فلاحی 'اسلامی معاشرے کی تعمیر ممکن ہوگی۔ اس کے بعد اگر صرف قرارداد مقاصد (۲-۱) اور 'اسلام ریاست کا مذہب' کی بنیاد پر عدالتیں آگے بڑھیں گی، اور سد رتبہ اور حکمت کو ملحوظ رکھیں گی، تو وہ طاقت ور حکمرانوں کی تمام بے راہ رویوں کو لگام دے سکیں گی، اور زندگی کے ہر دائرے میں لوگوں کو انصاف فراہم کر سکیں گی۔ ان کے سامنے ایسے ایسے نظائر ہوں گے کہ ان کے قانونی اثرات کا اندازہ بھی ممکن نہیں مثلاً یہ کہ حضور نے ایک سرکاری اہل کار کا تمام زائد مال ضبط کر لیا تھا، حضرت عمرؓ کو رزوں کے طرز رہائش اور مال و اسباب تک کا جائزہ لیتے تھے، حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا تھا کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو میرا کہنا ماننا، حضرت عمرؓ نے کہا تھا کہ دجلہ و فرات کی وادی میں ایک بکری بھی بھوکی مر جائے گی تو مجھ سے جواب طلب کیا جائے گا، یا یہ کہ اسلام میں کوئی آدمی عدل کے تقاضے پورے کیے بغیر جیل میں نہ ڈالا جائے گا۔

فیڈرل شریعت کورٹ کے سابق چیف جسٹس گل محمد صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی دوسرا قانون نہ ہو، اور جج اسلام کو نافذ کرنا چاہیں تو ان کے لیے یہی ایک دفعہ کافی ہے کہ "ریاست کا مذہب اسلام ہے"۔ اس کے صاف اور سیدھے معنی یہ ہیں کہ ریاست کو اسلام کی ساری ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ دیکھا جائے کہ برطانیہ میں ۳۰ سال میں جج صاحبان نے پبلک لاکو کیا سے کیا بنا دیا ہے، تو ان کی اس بات کی صداقت میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا۔

ہم ملک کے سارے ہی خواہوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس فیصلے کی حمایت میں بھی آگے کے مراحل کے لیے بھی آگے آئیں اور رائے عامہ کو عدالتوں کی پشت پناہی کے لیے تیار کریں۔ رائے عامہ کی پشت پناہی کے بغیر اس فیصلے کا باقی و برقرار رہنا بھی مشکل ہو سکتا ہے، کجا یہ کہ آگے پیش رفت ہو، اور پورے دستور بنی کو لپیٹ دینے کے منصوبے بھی دفن نہیں کر دیے گئے ہیں۔

خاص طور پر ہم دین کے علم بردار عناصر سے اپیل کریں گے کہ وہ اس مقصد کے لیے آگے آئیں۔ ہمارا احساس ہے کہ ۱۹۷۷ کے بعد سے ان عناصر نے حکمرانوں کو قانون کا پابند بنانے کے لیے کوئی آئینی و قانونی جدوجہد نہیں کی، ورنہ مارشل لا، نظریہ ضرورت، پی سی او، عدلیہ پر شب خون، غیر جماعتی انتخابات، تینوں وزرائے اعظم اور اسمبلیوں کی برخاستگی، ججوں کے شریعت کورٹ میں تبادلے۔۔۔ ان سب کے خلاف سیاسی مہم میں ان کو پیش پیش ہونا چاہیے تھا۔

ہم اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتے ہیں کہ وہ ملک کے راہ نماؤں کو عدل و انصاف کی راہ دکھائے، عدل و انصاف پر قائم رکھے اور عدل و انصاف کے ساتھ ملک کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!